

## ROOTWORDS SURAH HUD 84-101

تَنْفُصُوا	الْمُكَيَّلَ	مُحِيطٍ	تَنْخَسُوا	تَعْتُوا	بَقِيَّتٍ
ن ق ص	ك ي ل	ح و ط	ب خ س	ع ث و	ب ق ي
تم کی کرو	ناپ	گھیر کر رہے گا	تم کم دیا کرو	تم پھرو	دیا ہوا نفع
نَنْزِكَ	أَنْهَأَكُمْ	أُيِبُ	يَجْرِمُنَّكُمْ	شِقَاقِي	بِغِيَابٍ
ت ر ك	ن ه ي	ن و ب	ج ر م	ش ق ق	ب ع د
ہم ترک کر دیں	میں تمہیں منع کروں	رجوع کرتا ہوں	اکسائے تم کو	میری مخالفت	کچھ دور
وَدُوْدٌ	نَفَقَهُ	رَهْطُكَ	لَزَجْمُنَاكَ	أَرْهَطِي	أَعْرُ
و د د	ف ق ہ	ر ہ ط	ر ج م	ر ہ ط	ع ز ز
محبت والا ہے	ہم سمجھتے	تیری برادری	تجھے ہم سنگسار کر دیتے	کیا میری برادری	دباؤ زیادہ ہے
ظَهْرًا	ارْتَمُوا	الصَّيْحَةُ	خَالِئِينَ	بَعْدَتْ	مَلِيهٍ
ظ ہ ر	ر ق ب	ص ي ح	ج ث م	ب ع د	م ل أ
پس پشت ڈال دیا	انتظار کرو	چنگھاڑنے	ادندھے گرے رہ گئے	پھٹکار ہوئی	اس کے سرداروں
بِرْشَادٍ	فَأَوْزِدْهُمْ	الرِّفْدُ//الْمَرْفُودُ	خَصِيْدٌ	أَعْنَتٌ	تَقْتِيْبٍ
ر ش د	و ر د	ر ف د	ح ص د	غ ن ي	ت ب ب
درست / صحیح	اپھر انہیں لاڈالے گا	انعام ہے // انہیں دیا جائے گا	تہیں نہیں ہو گیا	کچھ کام آئے	ہلاکت